



سوال

(158) مسئلہ رفع یدین اور موطا امام مالک

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

موطا امام مالک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا مالک نم حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی رفع یدین والی احادیث میں صرف رکوع کے بعد رفع الیدین کا ذکر ہے جبکہ سنا ہے کہ امام بخاری نے امام مالک سے ہی سندی ہے۔ یعنی دونوں کی سند ایک ہے؟ (سیدنا عبدالناصر ضلع مردان)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سیدنا مالک بن حویرث کی روایت موطا امام مالک میں نہیں ہے جبکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے: **مَالِکٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا فَتِحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ (1) رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ: [ص: 103] سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، رَبَّنَا وَكَانَ النَّحْمُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (موطا امام مالک ص 13 حدیث: 59 روایہ عبدالرحمن بن قاسم)**

موطا امام مالک کی اس روایت میں شروع نماز، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد تین مقامات پر رفع یدین کا اثبات ہے، یہی روایت امام بخاری نے نقل کی ہے۔ امام بخاری اور موطا امام مالک کی سند اور متن ایک ہی ہے۔ لہذا مدینہ کے امام اور بخارا کے امام کی روایت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ (شہادت دسمبر 2001)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ علمیہ

جلد 1 - کتاب الصلاة - صفحہ 354

محدث فتویٰ